

بینک صارف کی حیثیت سے اپنے حقوق و ذمہ داریوں کو جانیں

شعبہ بینکاری طرزِ عمل اور تحفظ صارف
بینک دولت پاکستان



سوالات و معاونت کے لیے رابطہ کریں

شعبہ بینکاری طرزِ عمل اور تحفظ صارف
بینک دولت پاکستان



آئی آئی چندر گیر روڈ، کراچی



+92-21-111-727-273
+92-21-99221160 (لیس)



cpd.helpdesk@sbp.org.pk



www.sbp.org.pk



شکایات کے لیے رابطہ کریں

(اموالے مائنکر و فناں بینکوں کی شکایات)

بینکاری محتسب پاکستان سیکرٹریٹ



پانچویں منزل، شاہین کمپلیکس،
ایم آر کیانی روڈ، کراچی



+92-21-99217334-8
+92-21-99217375 (لیس)



info@bankingmohtasib.gov.pk



www.bankingmohtasib.gov.pk



ذمہ دار بینکاری

صارفین کا کردار

صارفین کے ساتھ جائز سلوک اختیار کیا جانا، صارفین اور بینکوں دونوں کا مشترکہ حق اور ذمہ داری ہے۔

بینک کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے آپ کے حقوق (سبرنگ میں) اور فرائض (سرمی رنگ میں) درج ذیل ہیں۔

اطہارِ کوائف اور شفافیت

• مطلوبہ مصنوعات / خدمات کے حصول کے لیے درست، واضح، جامع، مفصل اور حالیہ معلومات آپ کو فراہم کی جائیں۔

• زیرِ استعمال مصنوعات / خدمات کی شرائط و ضوابط کی تعمیل کریں۔

• بینک کے ساتھ معاملات میں شانستگی کا مظاہرہ کریں۔

صارف کو با اختیار بنانا

• آپ کو بینکاری مصنوعات / خدمات کو سمجھنے کے لیے با اختیار و بالعلم بنایا جائے۔

• بینک کی جانب سے صارفین کو با اختیار بنانے والے اقدامات میں بھرپور حصہ لیں۔

انفا اور جلسازی سے تحفظ

- جلسازی اور ممنوع معلومات افشا ہونے سے تحفظ فراہم کیا جائے۔
- اے ٹی ایمس، بر انچوں اور آن لائن بینکنگ کے دوران اپنے اطراف پر نظر رکھیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع دیں۔
- اپنے کارڈ یا ذاتی اور مالی معلومات جیسے اکاؤنٹ نمبرز، پن/خفیہ کوڈز کسی کو نہ دیں۔
- اپنی اکاؤنٹ اسٹیمپٹ کا باقاعدگی سے جائزہ لیں اور کسی بھی غیر مستند لین دین یا کارڈ کی چوری ہونے کی صورت میں بینک کو فری اطلاع دیں۔

شکایت کا اندر راج و ازالہ

- شکایت دور کرنے کا ایسا طریقہ کار فراہم کیا جائے، جس تک آپ کی رسائی ہو۔
- شکایت کے اندر راج کے لیے فورمز کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔
- آپ کی شکایت کا ازالہ معقول، کم خرچ، موثر، شفاف، بروقت اور غیر جانبدارانہ انداز سے ہو۔
- شکایت کا اندر راج طے شدہ طریقے کے مطابق کریں۔
- مسئلے کے حل کے لیے درج بندی اور مقررہ وقت کا خیال رکھیں۔

موزوں نیت اور انتخاب

- باخبر انتخاب کے لیے پیش کردہ مصنوعات / خدمات کے بارے میں خاطر خواہ معلومات فراہم کی جائے۔
- اپنے بینک سے خاطر خواہ معلومات حاصل کریں اور اسی پیش کردہ مصنوعات / خدمات حاصل کریں جو آپ کی ضرورت اور مالی استطاعت کے مطابق ہو۔

اخلاقی اور جائز طرزِ عمل

- آپ سے پیشہ ورانہ، جائز اور مساوی طرزِ عمل کیا جائے۔
- معمر یا معذور ہونے کی صورت میں آپ کو خصوصی معاونت فراہم کی جائے۔

- زیرِ استعمال مصنوعات / خدمات کی شرائط و ضوابط کی تعمیل کریں۔
- بینک کے ساتھ معاملات میں شانستگی کا مظاہرہ کریں۔

صارف کو با اختیار بنانا

• بینک کو درست ذاتی اور مالی معلومات فراہم کریں۔

• تمام شرائط و ضوابط کو قبول کرنے سے قبل پڑھیں اور اگر ضرورت ہو تو بینک سے سوالات کریں۔

• اکاؤنٹ کو استعمال کرنے کی واضح ہدایات فراہم کریں۔